



MARI PETROLEUM COMPANY LIMITED

21-Mauve Area, 3rd Road, Sector G-10/4, Islamabad. www.mpcl.com.pk

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 37th Annual General Meeting (AGM) of the Shareholders of Mari Petroleum Company Limited (MPCL) will be held at the Registered Office of the Company on Tuesday, October 26, 2021 at 10:00 a.m., to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS:

1. To receive, consider and adopt the Audited Accounts of the Company for the year ended June 30, 2021 together with the Directors' and Auditors' reports thereon.
2. To approve, as recommended by the Board of Directors, the payment of final dividend @ Rs. 75/- per share (750%) for the financial year ended June 30, 2021. This is in addition to interim dividends @ Rs. 66/- per share (660%) already paid.
3. To appoint Auditors for the year 2021-22 and fix their remuneration.
4. Any other business with the permission of the Chair.

By order of the Board

Islamabad
October 04, 2021

Faiz Chapra
General Counsel /Company Secretary

NOTES:

1. Coronavirus Contingency Planning for AGM

In the wake of Covid-19, SECP has instructed listed companies to modify their usual planning for General Meetings for the safety and wellbeing of the shareholders and public at large. Accordingly, the Company intends to convene this AGM by minimal physical interaction with the shareholders while ensuring compliance with the quorum requirements and requests the Members to consolidate their attendance and voting at the AGM through proxies.

The Company, furthermore, has made arrangements to ensure maximum participation of shareholders in the AGM proceedings via video-link. Shareholders interested in attending the AGM through videolink are hereby requested to get themselves registered by providing following information through email at corporate.affairs@mpcl.com.pk on or before Monday, October 25, 2021.

Name of Shareholder	CNIC No	Folio No/CDC Account No	No of Shares	Contact No	Email Address

Shareholders will be able to login and participate in the AGM proceedings through their devices after completing all the formalities required for the identification and verification of the shareholders. The login facility will remain open from 09:45 am till the end of the meeting on October 26, 2021.

The Shareholders can also provide their comments / suggestions on the agenda items of the AGM on +321-5555425 (WhatsApp) and corporate.affairs@mpcl.com.pk (Email).

2. Book Closure

The Share Transfer Books of the Company will remain closed from October 19, 2021 to October 26, 2021 (both days inclusive). Transfers, in order, received at the Company's Shares Registrar, M/s Corplink (Pvt) Limited, Wings Arcade, 1-K Commercial, Model Town, Lahore, at the close of business on October 18, 2021 will be treated as in time for the purpose of determining the entitlement for the payment of Final Dividend and to attend the AGM.

3. Attending AGM in person or through Proxy

A shareholder entitled to attend and vote at the above meeting may appoint a person/representative as Proxy to attend and vote on his behalf at the Meeting. The instrument of Proxy must be received at the Registered Office of the Company not less than 48 hours before the time of holding the meeting. For the convenience of shareholders, proxy forms (both in English and Urdu) are available on the Company's website at <https://mpcl.com.pk/forms>

In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney with specimen signature of the nominee shall be produced before the meeting. The shareholders/ their representatives must bring original National Identity Cards or Passport, CDC Account and Participant ID Numbers to prove identity and verification at the time of meeting.

4. Payment of Cash Dividend through Electronic Mode

The provisions of Section 242 of the Companies Act, 2017 require that the dividend payable in cash shall only be paid through electronic mode directly into the bank accounts designated by the entitled shareholders. Therefore, for making compliance to the provisions of the law, all those physical shareholders who have not yet submitted their International Bank Account Number (IBAN) and CNIC details to the Company, are requested to provide the same on the Dividend Mandate Form available on Company's website at <http://mpcl.com.pk>. The shareholders of the Company in CDC are requested to provide the same to their Participants in CDC who maintain their accounts in CDC, and ensure that their IBAN details are updated. In case of unavailability of IBAN and valid CNIC, the Company would be constrained to withhold dividend in accordance with the Companies (Distribution of Dividends) Regulations, 2017.

5. Deduction of Income Tax from Dividend and Exemptions from deduction

The current prescribed rates for the deduction of withholding tax under Section 150 of the Income Tax Ordinance, 2001 from payment of dividend by the companies are as under:

For filers of income tax returns	: 15%
For non-filers of income tax returns	: 30%

The income tax is deducted from the payment of dividend according to the Active Taxpayer List (ATL) provided on the website of Federal Board of Revenue (FBR). All those shareholders who are filers of income tax returns are therefore advised to ensure that their names are entered into ATL to enable the Company to withhold income tax from payment of cash dividend @ 15% instead of 30%.

Further, according to clarification received from FBR, withholding tax will be determined separately on 'Filer/Non-Filer' status of principal shareholder as well as jointholder(s) based on their shareholding proportions in case of joint accounts held by the shareholders.

In this regard, all shareholders who hold shares jointly are requested to provide the shareholding proportions of principal shareholder and Jointholders in respect of shares held by them to our Shares Registrar in writing as follows:

MARI PETROLEUM COMPANY LIMITED						
FORM OF JOINT SHAREHOLDING PROPORTION						
Folio/CDC Account No.	Total Holding	Principal Shareholder		Joint Shareholder(s)		Signatures
		Name and CNIC No.	Shareholding Proportion (No. of Shares)	Name and CNIC No.	Shareholding Proportion (No. of Shares)	

The joint accounts information must reach our Shares Registrar within 10 days of this notice. In case of non-receipt of the information, it will be assumed that the shares are equally held by principal shareholder and the jointholder(s).

The corporate shareholders of the Company in CDC are advised to ensure that their National Tax Numbers (NTNs) have been updated with their respective participants, whereas corporate physical shareholders must send a copy of their NTN Certificate with their Folio Numbers mentioned thereon to the Company or its Shares Registrar.

The shareholders, who want to avail exemption U/S 150 of the Income Tax Ordinance 2001, must provide valid Tax Exemption Certificate to our Shares Registrar before commencement of book closure otherwise tax will be deducted on dividend as per applicable rates.

6. Transmission of Annual Audited Accounts and Notice of Annual General Meeting

The Company shall place the financial statements and reports on the Company's website: <http://mpcl.com.pk> at least twenty one (21) days prior to the date of the AGM.

In accordance with the permission granted by the SECP's SRO 470(I)/2016 dated May 31, 2016, the annual audited accounts of the Company for the year ended June 30, 2021, are being dispatched to the shareholders through DVD.

Further, pursuant to SECP's S.R.O. 787(1)/2014 dated September 8, 2014, the shareholders can also opt to obtain Annual Report along with Notice of the AGM through email. To avail this facility, shareholders are requested to submit the duly filled request form available on the company's website <http://mpcl.com.pk> at the office of General Counsel/Company Secretary.

7. Consent for Video Conference Facility

Pursuant to Section 132 (2) of the Companies Act, 2017, shareholders may avail video conference facility for this AGM provided the Company receives consent from the shareholders holding aggregate 10% or more shareholding at least 7 days prior to the date of meeting. The requisite form for availing the facility is available in the Proxy Form attached with this notice.

8. Deposit of Physical Shares into Central Depository Company

As per Section 72 of the Companies Act, 2017, all listed Companies are required to replace shares issued by them in physical form to book-entry form within four years of the promulgation of the Act.

Accordingly, all shareholders of MPCL having physical folios/share certificates are requested to convert their shares into book-entry form at the earliest. Maintaining shares in book-entry form will make the process of share handling more efficient and risk-free. Further, this will facilitate shareholders in safe custody of shares with the CDC, instant credit of entitlements (bonus and rights shares), eliminate the risk of loss and readily available for sale/purchase in the open market etc. The shareholders may contact the share registrar of the Company, M/s Corplink (Pvt) Limited for the conversion of physical shares into book-entry form.

9. Unclaimed Dividends and Share Certificates

The Company has previously discharged its responsibility under Section 244 of the Companies Act, 2017 whereby the Company approached the shareholders to claim their unclaimed dividends and undelivered share certificates in accordance with the law.

Shareholders, whose dividends and share certificates are still unclaimed/undelivered, are hereby once again requested to approach the Company to claim their outstanding dividend amounts and/ or undelivered share certificates.

10. Change of address and Zakat Declaration Status

Members are requested to immediately notify the change, if any, in their mailing address and zakat declaration status to the Company's Shares Registrar.

11. Contact Details

For any query/information, the shareholders may contact Corporate Affairs Department, Phone: 051-111-410-410, Email: corporate.affairs@mpcl.com.pk or to the Company's Shares Registrar, M/s Corplink (Pvt) Limited, Wings Arcade, 1-K Commercial, Model Town, Lahore.

Phone: 042-35916714, 042-35916719. Email: corporate@corplink.com.pk, corplink786@gmail.com

MARI PETROLEUM COMPANY LIMITED

Tel: 051-111-410-410 Fax: 051-2352859

نوٹس برائے سالانہ اجلاس عام

بذریعہ نوٹس ہذا اطلاع دی جاتی ہے کہ ماری پٹرولیم کمپنی لمیٹڈ کے حصص داران (شئیر ہولڈرز) کا 37 واں سالانہ عمومی اجلاس مورخہ 26 اکتوبر 2021 بروز منگل بوقت 10:00 بجے صبح کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں درج ذیل امور کی انجام دہی کے لیے منعقد ہوگا:

عمومی کارروائی:

1. 30 جون، 2021 کو ختم ہونے والے سال کے لیے کمپنی کے آڈٹ شدہ حسابات (اکاؤنٹس) بشمول ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹ کی وصولی، ان پر غور و خوض اور ان کی منظوری۔
2. 30 جون، 2021 کو ختم ہونے والے مالی سال کے لیے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے تجویز کردہ حتمی ڈیویڈنڈ 75 روپے فی حصص (750 فیصد) کی منظوری۔ یہ 66 روپے فی حصص (660 فیصد) کے حساب سے ادا شدہ عبوری ڈیویڈنڈ کے علاوہ ہے۔
3. سال 2021-22 کے لیے آڈیٹرز کی تعیناتی اور ان کے معاوضے کا تعین۔
4. چیئرمین کی منظوری سے دیگر امور کی انجام دہی۔

بحکم بورڈ

فیض چھاپرا

جنرل کونسل / کمپنی سیکرٹری

04 اکتوبر، 2021

نوٹس:

1. سالانہ اجلاس عام کے لیے کورونا وائرس کی ہنگامی منصوبہ بندی

کورونا وبا کے باعث پیدا ہونے والی صورتحال کے پیش نظر ایس ای سی پی نے تمام لسٹڈ کمپنیوں کو اپنے شئیر ہولڈرز اور عوام الناس کے تحفظ کی خاطر عمومی اجلاسوں کی معمول کی منصوبہ بندی میں تبدیلیوں کی ہدایت کی ہے۔ اسی بنیاد پر، کورم کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے کمپنی، اس سالانہ اجلاس عام کا انعقاد شئیر ہولڈرز کے ساتھ کم سے کم سماجی رابطہ برقرار رکھتے ہوئے کروانا چاہتی ہے، اور اپنے ممبران سے اس سالانہ اجلاس عام کے لیے اپنی حاضری اور ووٹنگ کا عمل پر کسی کے ذریعے کرنے کی درخواست کرتی ہے۔

مزید برآں، کمپنی نے سالانہ اجلاس عام میں شئیر ہولڈرز کی زیادہ سے زیادہ حاضری کو یقینی بنانے کے لیے ویڈیو لنک کا بھی بندوبست کیا ہے۔ جو شئیر ہولڈرز سالانہ اجلاس عام میں ویڈیو لنک کے ذریعے شامل ہونا چاہتے ہیں، 25 اکتوبر، 2021 بروز سوموار سے پہلے corporate.affairs@mpcl.com.pk پر شئیر ہولڈر کا نام، قومی شناختی کارڈ نمبر، فوٹیو نمبر / سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر، شئیرز کی تعداد، رابطہ نمبر اور ای میل ایڈریس کی تفصیلات پر مبنی ای میل بھیج کر اپنے آپ کو رجسٹر کروا سکتے ہیں۔

شئیر ہولڈرز اپنی شناخت اور تصدیق سے کی معلومات مکمل کرنے کے بعد لاگ ان ہو کر سالانہ اجلاس عام میں شرکت کر سکتے ہیں۔ لاگ ان کی سہولت 26 اکتوبر 2021 صبح 09:45 سے لے کر اجلاس کے اختتام تک دستیاب رہے گی۔

شئیر ہولڈرز سالانہ اجلاس عام کے ایجنڈا آئٹمز سے متعلق آراء اور تجاویز واٹس ایپ نمبر 321-5555425 یا corporate.affairs@mpcl.com.pk پر ای میل کر سکتے ہیں۔

2. کتابوں کی بندش

کمپنی کی شئیرز ٹرانسفر بکس 19 اکتوبر، 2021 سے 26 اکتوبر، 2021 تک (بشمول دونوں دن) بند رہیں گی۔ 18 اکتوبر، 2021 کو کاروبار کے اختتام تک، کمپنی کے شئیرز رجسٹرار، میسرز کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ، ونگز آر کیڈ، K-1 کمرشل، ماڈل ٹاؤن، لاہور میں موصول ہونے والی ٹرانسفرز کو ہی حتمی ڈیوڈنڈز کی ادائیگی کے حق کے تعین اور سالانہ عمومی اجلاس میں شرکت کے لیے اہل تصور کیا جائے گا۔

3. سالانہ عمومی اجلاس میں بذات خود یا پر کسی کے ذریعے شرکت

وہ ممبر، جو مذکورہ بالا اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ ڈالنے کا اہل ہے، اس اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ ڈالنے کے لیے کسی شخص / نمائندے کو اپنی جگہ پر کسی مقرر کر سکتا ہے۔ پر کسی مقرر کرنے کی دستاویز (انسٹرومنٹ آف پراکسی) اجلاس کے انعقاد سے 48 گھنٹے پہلے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں موصول ہونی چاہیے۔ شئیر ہولڈرز کی آسانی کے لیے پر کسی فارم انگریزی اور اردو زبان میں کمپنی کی ویب سائٹ <https://mpcl.com.pk/forms> پر دستیاب ہیں۔ کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، اس کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / پاور آف اٹارنی، جس پر نامزد شخص کے دستخط کا نمونہ موجود ہو، اجلاس کے وقت پیش کی جائے گی۔ انفرادی ممبران یا سی ڈی سی میں کمپنی کے کارپوریٹ ممبران کے نمائندگان کے لیے، اجلاس کے موقع پر اپنی شناخت اور تصدیق کے ثبوت کے لیے، اصل قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ، سی ڈی سی اکاؤنٹ اور شرکت کنندہ کا شناختی (ID) نمبر ہمراہ لانا ضروری ہے۔

4. الیکٹرانک طریقے سے نقد ڈیوڈنڈ کی ادائیگی

کمپنیز ایکٹ، 2017 کی شق 242 کے مطابق قابل ادائیگی نقد منافع، اہل شئیر ہولڈرز کے نامزد کردہ بینک اکاؤنٹس میں صرف الیکٹرانک طریقے سے ہی براہ راست منتقل کیا جائے گا۔ لہذا قانون کی شقوں پر عمل درآمد کے لیے، ایسے تمام شئیر ہولڈرز سے، جنہوں نے اب تک کمپنی کو اپنے بین الاقوامی بینک اکاؤنٹ نمبر (IBAN) اور قومی شناختی کارڈ کی تفصیلات فراہم نہیں کیں، یہ گزارش کی جاتی ہے کہ وہ کمپنی کی ویب سائٹ (<https://mpcl.com.pk>) پر دستیاب Dividend Mandate Form کے ذریعے اپنی تفصیلات جمع کروائیں۔

سی ڈی سی میں کمپنی کے شئیر ہولڈرز سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ اپنی تفصیلات سی ڈی سی میں اپنے ان بروکرز کو فراہم کریں جن کے اکاؤنٹ سی ڈی سی میں ہیں، اور اس امر کو یقینی بنائیں کہ آئی بی اے این (IBAN) کی تفصیلات اپڈیٹڈ ہوں۔ ایسی صورت میں، جب آئی بی اے این (IBAN) اور درست قومی شناختی کارڈ فراہم نہیں کیا جاتا، تو کمپنی، کمپنیز (ڈیوڈنڈ کی تقسیم) ریگولیشنز، 2017 کے تحت ڈیوڈنڈ کی ادائیگی روکنے پر مجبور ہوگی۔

5. ڈیوڈنڈ سے انکم ٹیکس کی کٹوتی اور کٹوتی سے استثنیٰ

انکم ٹیکس آرڈیننس، 2001 کی شق 150 کے تحت کمپنیز کی جانب سے ڈیوڈنڈ کی ادائیگی سے وہ ہولڈنگ ٹیکس کی کٹوتی کی موجود شرح ذیل ہے:

انکم ٹیکس گوشوارے جمع کروانے والوں کے لیے: 15 فیصد

انکم ٹیکس گوشوارے جمع نہ کروانے والوں کے لیے: 30 فیصد

ڈیوڈنڈ سے انکم ٹیکس کی کٹوتی، ایف بی آر کی ویب سائٹ پر دی جانے والی فعال ٹیکس دہندگان کی فہرست (Active Tax Payers List) کے مطابق کی جاتی ہے۔ ایسے تمام شنیر ہولڈرز سے، جو انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرواتے ہیں، گزارش کی جاتی ہے کہ وہ ATL میں اپنے نام کے اندراج کو یقینی بنائیں تاکہ کمپنی ان کے ڈیوڈنڈ سے 30 فیصد کی بجائے 15 فیصد انکم ٹیکس کی کٹوتی کو یقینی بنا سکے۔

مزید برآں، ایف بی آر سے موصول ہونے والی وضاحت کے مطابق، شنیر ہولڈرز کے مشترکہ اکاؤنٹ (Joint Account) کی صورت میں انکم ٹیکس کی کٹوتی پر نپل شنیر ہولڈر اور شراکت دار (Joint Holder (s) کے فائلر / نان فائلر اور ان کی شراکت داری کی بنیاد پر ہوگی۔ اس ضمن میں ان تمام شنیر ہولڈرز سے، جو شراکت داری پر مبنی شنیرز کے حامل ہیں، مجوزہ فارم پر فولیو / سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر، کل ہولڈنگ، پرنسپل شنیر ہولڈر کا نام قومی شناختی کارڈ نمبر اور شنیرز کی تعداد اور شراکت دار شنیر ہولڈر کا نام قومی شناختی کارڈ نمبر، شنیرز کی تعداد، اور دستخط کی تفصیلات ہمارے شنیر رجسٹرار کو فراہم کرنے کی گزارش کی جاتی ہے۔

ہمارے رجسٹرار کو مشترکہ اکاؤنٹس (Joint Account) کی تفصیلات نوٹس ہذا کے دس دن کے اندر اندر موصول ہو جانی چاہیے۔ تفصیلات موصول نہ ہونے کی صورت میں یہ سمجھا جائے گا کہ پرنسپل شنیر ہولڈر اور شراکت دار برابر کے حصوں کے حامل ہیں۔

سی ڈی سی میں کمپنی کے کارپوریٹ شنیر ہولڈرز کو یہ تجویز دی جاتی ہے کہ وہ اس امر کو یقینی بنائیں کہ ان کے قومی ٹیکس نمبر (National Tax Numbers) متعلقہ بروکرز کے ساتھ اپڈیٹ کیے جا چکے ہیں، جبکہ فزیکل شنیرز رکھنے والے کارپوریٹ شنیر ہولڈرز اپنے این ٹی این سرٹیفیکیٹس، جن پر ان کا فولیو نمبر درج ہو، براہ راست کمپنی یا شنیرز رجسٹرار کو بھجوائیں۔

وہ شنیر ہولڈرز، جو انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کی شق 150 کے تحت ٹیکس استثنیٰ حاصل کرنا چاہتے ہیں، ٹیکس استثنیٰ کا سرٹیفیکیٹ کتابوں کی بندش شروع ہونے سے قبل ہمارے شنیر رجسٹرار کو فراہم کریں، بصورت دیگر ڈیوڈنڈ سے ٹیکس کی کٹوتی موجودہ شرح پر ہوگی۔

6. سالانہ آڈٹ شدہ حسابات اور سالانہ اجلاس عام کے نوٹس کو آویزاں کرنا

کمپنی سالانہ عمومی اجلاس سے کم از کم 21 دن قبل اپنی تمام مالی گوشوارے اور رپورٹوں کو کمپنی کی ویب سائٹ <http://mpcl.com.pk> پر آویزاں کرے گی۔ 21 مئی، 2016 کو ایس ای سی پی کی جانب سے جاری کیے جانے والے ایس آر او 470/2016 کے ذریعے دی جانے والی اجازت کے مطابق 30 جون، 2021 کو ختم ہونے والے مالی سال کے کمپنی کے آڈٹ شدہ سالانہ حسابات شنیر ہولڈرز کو بذریعہ ڈی وی ڈی بھیجے جا رہے ہیں۔ مزید برآں، 8 ستمبر، 2014 کو ایس ای سی پی کی جانب سے جاری کیے جانے والے ایس آر او 787/2014 کے تحت شنیر ہولڈرز سالانہ رپورٹ اور سالانہ اجلاس عام کانوٹس ای میل کے ذریعے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ سہولت حاصل کرنے کے لیے شنیر ہولڈرز سے کمپنی کی ویب سائٹ پر دیا گیا فارم پُر کر کے جزل کونسل / کمپنی سیکرٹری کے دفتر میں جمع کروانے کی گزارش کی جاتی ہے۔

7. ویڈیو کانفرنس کی سہولت

کمپنیز ایکٹ، 2017 کی شق 132(2) کے مطابق، اس شرط کے ساتھ کہ کمپنی کو مجموعی طور پر 10 فیصد یا اس سے زیادہ شنیرز رکھنے والے ممبران کی جانب سے میٹنگ سے کم از کم سات (07) دن قبل اجازت موصول ہو جائے، ممبران سالانہ اجلاس عام میں بذریعہ ویڈیو کانفرنس شرکت کر سکتے ہیں۔ اس سہولت کو حاصل کرنے کے لیے فارم، اس نوٹس کے ساتھ لف کردہ پراسی فارم میں دستیاب ہیں۔

8. فزیکل شنیرز کو سنٹرل ڈیپازٹری کمپنی میں جمع کروانا

کمپنیز ایکٹ، 2017 کی شق 72 کے مطابق، تمام لسٹڈ کمپنیاں اس ایکٹ کے نفاذ کے چار سال کے اندر اپنی طرف سے جاری کیے جانے والے تمام فزیکل شنیرز کو کتابی شکل (Book-entry) میں تبدیل کرنے کی پابند ہیں۔

مزید برآں، ماری پٹرولیم کمپنی لمیٹڈ کے ان تمام شنیر ہولڈرز سے، جو فزیکل فولیوز / شنیر سرٹیفیکٹس کے حامل ہیں، اپنے شنیرز کو کتابی شکل میں تبدیل کروانے کی گزارش کی جاتی ہے۔ شنیرز کو کتابی شکل میں رکھنے سے شنیرز کو برتنے کا عمل مزید مؤثر اور خطرے سے پاک ہو جائے گا۔ مزید برآں یہ عمل شنیر ہولڈرز کو شنیرز کی سی ڈی سی میں بحفاظت تحویل، استحقاق (بونس شنیرز اور رائٹ شنیرز) کی فوری ادائیگی، گمشدگی کے خطرے کا خاتمہ اور کھلی مارکیٹ میں خرید و فروخت کے لیے فوری دستیابی وغیرہ جیسی سہولت فراہم کرے گا۔ شنیر ہولڈرز اپنے فزیکل شنیرز کو کتابی شکل میں تبدیل کروانے کے لیے کمپنی کے شنیر رجسٹرار، میسرز کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔

9. غیر دعویٰ / غیر موصول ڈیوڈنڈز اور شنیر سرٹیفیکٹس

کمپنیز ایکٹ، 2017 کی شق 244 کے تحت، کمپنی اپنے شنیر ہولڈرز کو ان کے غیر دعویٰ شدہ ڈیوڈنڈز اور شنیر سرٹیفیکٹس کی تفصیلات کا نوٹس بھیج کر اپنی ذمہ داری سے دست بردار ہو چکی ہے۔

ایسے تمام شنیر ہولڈرز جن کے ڈیوڈنڈز / شنیر سرٹیفیکٹس کمپنی کے پاس موجود ہیں ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ اپنے ڈیوڈنڈز / شنیر سرٹیفیکٹس کمپنی سے وصول کر لیں۔

10. پتے کی تبدیلی اور زکوۃ کٹوتی کی اطلاع

ممبران سے یہ گزارش کی جاتی ہے کہ ڈاک کے پتے یا زکوۃ کٹوتی کے ضمن میں کسی قسم کی تبدیلی کی صورت میں فوراً کمپنی کے رجسٹرار کو آگاہ کریں۔

11. رابطے کی تفصیلات

شنیر ہولڈر کسی بھی سوال / معلومات کے لیے کمپنی کے کارپوریٹ افیئرز ڈیپارٹمنٹ سے فون نمبر: 051-111-410-410 یا ای میل ایڈریس: corporate.affairs@mpcl.com.pk پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ مزید برآں اس سلسلے میں کمپنی کے شنیر رجسٹرار، میسرز کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ، ونگز

آرکیڈ، K-1 کمرشل، ماڈل ٹاؤن، لاہور سے فون نمبر 042-35916719، 042-35916714 یا

corplink786@gmail.com; corporate@corplink.com.pk پر بھی رابطہ کیا جاسکتا ہے۔

ماری پٹرولیم کمپنی لمیٹڈ



MARI PETROLEUM COMPANY LIMITED

21-Mauve Area, 3rd Road, Sector G-10/4, Islamabad.

Proxy Form **37th Annual General Meeting**

The Company Secretary
Mari Petroleum Company Limited
21 - Mauve Area, 3rd Road,
Sector G-10/4,
Islamabad

I/We, _____ of _____
being a member(s) of Mari Petroleum Company Limited and holder of _____
Ordinary Shares as per the Share Register Folio/CDC Account No. _____ hereby appoint
Mr. _____ of _____ or failing
him Mr. _____ of _____ or
failing him Mr. _____ of _____ as my/our Proxy in
my/our absence to attend and vote for me/us on my/our behalf at the 37th Annual General Meeting of the Company to be
held on Tuesday, October 26, 2021 at 10:00 a.m., at 21-Mauve Area, 3rd Road, Sector G-10/4, Islamabad and at any
adjournment thereof.

Please affix appropriate
Revenue Stamp

Signed this _____ day of _____ 2021

Signature of Member

Name _____

Signatures of Proxy _____

Folio/CDC A/c No. _____

WITNESSES:

1.	Signature		2.	Signature	
	Name			Name	
	Address:			Address:	
	CNIC or Passport No.			CNIC or Passport No.	

NOTE

1. A Member entitled to attend and vote at the above meeting may appoint a person/representative as Proxy to attend and vote on his behalf at the Meeting. The instrument of Proxy in order must be received at the Registered Office of the Company at 21 -Mauve Area. 3rd Road, Sector G-10/4, Islamabad not less than 48 hours before the time of holding of the meeting.
2. The Company shareholders in Central Depository Company of Pakistan are requested to attach an attested photocopy of their National Identity Card or Passport with this Proxy Form before submission to the Company.
3. In case of corporate entity, the Board of Directors resolution/power of attorney with specimen signature shall be submitted with this Proxy Form before submission to the Company.

Form for Video Conference Facility

I/We _____ of _____, being Member(s) of Mari Petroleum Company Limited and holder of _____ Share(s) as per the Registered Folio/CDC Account No _____, hereby opt for Video Conference Facility at _____.

AFFIX
CORRECT
POSTAGE

The General Counsel/ Company Secretary
MARI PETROLEUM COMPANY LIMITED
21–Mauve Area, 3rd Road,
Sector G–10/4,
ISLAMABAD.

پراکسی فارم

برائے سالانہ اجلاس عام
ماری پٹرولیم کمپنی لمیٹڈ



Tel: 051-111-410-410, Fax: 051-2352859 اسلام آباد، سیکٹر 4/G-10، ماڈو ایریا، تھرڈ روڈ،

میں / ہم _____ ساکن _____ بطور ممبر (ز) ماری پٹرولیم کمپنی لمیٹڈ حامل
_____ عام حصص، رجسٹرڈ فولیو / سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر _____ محترم _____ ساکن _____
یا ان کے حاضر نہ ہونے کی صورت میں محترم _____ ساکن _____
یا ان کے حاضر نہ ہونے کی صورت میں محترم _____ ساکن _____
کو اپنے / ہمارے ایماء پر کمپنی کے بروز منگل مورخہ 26 اکتوبر 2021 کو ہونے والے سینتیسویں (37) اجلاس عام میں شرکت کرنے اور حق رائے دہی استعمال کرنے کے لیے یا کسی بھی التواء کی صورت میں
اپنا / ہمارا نمائندہ (پراکسی) مقرر کرتا ہوں / کرتے ہیں۔

پانچ روپے کے رسیدی ٹکٹ پر ممبر کے دستخط

نمائندے (پراکسی) کے دستخط

گواہان

(1) دستخط _____	(2) دستخط _____
نام _____	نام _____
پتہ _____	پتہ _____

شناختی کارڈ نمبر _____	شناختی کارڈ نمبر _____
پاسپورٹ نمبر _____	پاسپورٹ نمبر _____

نوٹ:

1- اجلاس ہذا میں شرکت اور ووٹ دینے کا مستحق ممبر ووٹ اور شرکت کے لیے اپنی بجائے کسی دوسرے شخص کو اپنا نمائندہ (Proxy) مقرر کر سکتا ہے۔ پراکسی تقرری کی دستاویز کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر واقع 21 ماڈو ایریا، تھرڈ روڈ، سیکٹر 4/G-10، اسلام آباد میں اجلاس کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل لازماً موصول ہو جانی چاہیے۔

2- ممبران، جن کے حصص سنٹرل ڈیپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ میں جمع ہیں، اُن کو ہدایت ہے کہ اجلاس میں شرکت کے لیے اپنے اصلی قومی شناختی کارڈ بمعہ سی ڈی سی میں موجود شرکت دار ID اور اکاؤنٹ نمبر ہمراہ لائیں۔

3- کارپوریٹ ادارہ کی صورت میں، بورڈ کی قرارداد / مختار نامہ یا دیگر اتھارٹی نمائندے (پراکسی) کے دستخط کے ساتھ کمپنی کو جمع کرانا ہوگا۔

ویڈیو کانفرنس کی سہولت کے لیے فارم

میں / ہم _____ ساکن _____ بطور ممبر (ز) ماری پٹرولیم کمپنی لمیٹڈ، حامل _____ عام حصص، رجسٹرڈ فولیو /

سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر _____ ویڈیو کانفرنس کی سہولت بمقام _____ چاہیں گے۔

ممبر (ز) کے دستخط

AFFIX
CORRECT
POSTAGE

The General Counsel/ Company Secretary
MARI PETROLEUM COMPANY LIMITED
21–Mauve Area, 3rd Road,
Sector G–10/4,
ISLAMABAD.